

کتا پالنے کے لائسنس کے لیے درخواست کیسے دیں



نیو یارک سٹی ہیلتھ کوڈ (Health Code) آرٹیکل §161.04 کا تقاضہ ہے کہ کتے جس وقت باہر عوامی مقام پر ہوں اس وقت ایک لائسنس ٹیگ پٹے سے منسلک ہو۔

آن لائن nyc.gov/doglicense پر کتا پالنے کے لائسنس کے لیے درخواست دے کر وقت اور ڈاک خرچ بچائیں۔

بذریعہ ڈاک کیسے درخواست دیں

- اپنی کوشش کی حد تک زیادہ سے زیادہ معلومات انگریزی میں پُر کریں۔
- دوسری زبانوں میں جمع کرائے گئے فارموں پر کارروائی کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
- جس قسم کے لائسنس کا آپ آرڈر کر رہے ہیں اسے منتخب کریں۔
- فارم پر دستخط مع تاریخ درج کریں۔
- ذیل میں فیس کے جدول کا استعمال کر کے فیس کا حساب لگائیں۔ آپ ایک سال سے زیادہ کے لیے اپنے کتے کا لائسنس لے سکتے ہیں، الا یہ کہ 4 ماہ سے کم کا یا خصی کیا ہوا یا لا جنس بنایا ہوا نہ ہو۔ لائسنس فیس ناقابل واپسی ہے۔
- کل واجب الادا رقم کے لیے چیک یا منی آرڈر (نقدی نہیں) منسلک کریں۔ NYC DOHMH کے نام واجب الادا بنائیں۔
- مکمل کردہ فارم اور ادائیگی اس پتے پر سپرد ڈاک کریں:

New York City Department of Health and Mental Hygiene
Veterinary Public Health Services
P.O. Box 4768
Church Street Station
New York, NY 10261-4768

ہم گمشدہ یا خراب شدہ ڈاک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

لائسنس اور دیگر فیس

فیس	تفصیل
\$8.50	خاصی کیا ہوا یا لا جنس بنایا ہوا، کسی بھی عمر کا
\$34.00	غیر خاصی کیا ہوا یا لا جنس بنایا ہوا، 4 ماہ سے زیادہ عمر کا
\$8.50	غیر خاصی کیا ہوا یا لا جنس بنایا ہوا، 4 ماہ سے کم عمر کا
\$2.00	تاخیر فیس (میعاد ختم شدہ لائسنسز)
\$1.00	بدل ٹیگ

آپ ضرورت مند جانوروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے NYC کے اینیمل کیئر سنٹرز (Animal Care Centers, ACC) کی مدد کرنے کے لیے بھی عطیہ دے سکتے ہیں۔

- \$10 بے سہارا بلی کے بچوں یا پلوں کے لیے فارمولا
- \$500 ایک نیا بلی کا مسکن خرید سکتا ہے۔
- \$45 ایک کتے کو خاصی یا لاجنس بنا سکتا ہے۔
- \$150 تابعداری کی تربیت فراہم کر سکتا ہے۔
- \$1000 کسی زخمی کتے یا بلی کو آرتھوپڈک سرجری فراہم کر سکتا ہے۔

کیا آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں؟

اگر نہیں تو، ایک ووٹر رجسٹریشن فارم حاصل کرنے کے لیے 311 پر کال کریں یا www.nycffb.info/register tovot ملاحظہ کریں

مزید معلومات کے لیے یا آڈلنڈ درخواست دینے کے لیے 311 پر کال کریں یا nyc.gov/doglicense ملاحظہ کریں۔